

• ፩፪ | ቤት / English en

III 2

- ☞ Samrina Sana
- ☞ Jesse Pietersen
- ☞ Ursula Nafula



<https://creativecommonsmonsters.org/licenses/by/4.0>

Attribution 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



- ☞ Samrina Sana (ur)
- ☞ Jesse Pietersen
- ☞ Ursula Nafula

talks to plants

፩ የንግድ ጥሩ መጠናዎች / Khalai


globalstorybooks.net

Global Storybooks



Khalai talks to plants

፩ የንግድ ጥሩ መጠናዎች



یہ کھلائی ہے۔ وہ سلات سدل کی ہے۔ اس کی زبان
لبوکوسو میں اس کے نام کا مطلب ہے، 'بہت اچھا'۔

...

This is Khalai. She is seven years old.
Her name means 'the good one' in her
language, Lubukusu.

Khalai wakes up and talks to the orange tree. "Please orange tree, grow big and give us lots of ripe oranges."

...

خالی از خواب بیدار شد و درخت پرتقال را بخوبی دید.
خالی: "لطفاً پرتو پرتقال بزرگ شود تا ما بسیاری از پرتقال های رسیده
و سفید بگیریم."



کھلائی اسکول کی طرف چلتی ہے۔ اور راستے میں وہ
گھاس سے بات کرتی ہے۔ ‘براہ کرم گھاس سبز بو جاو،
اور سوکھنا مت۔’

...

Khalai walks to school. On the way she
talks to the grass. “Please grass, grow
greener and don’t dry up.”

مالٹے ابھی بھی کچے ہیں کھلائی نے آہ بھری۔ میں تم
سے کل ملنے آؤں گی مالٹوں کے درخت کھلائی نے کہ۔
شائد تب تمہارے پاس میرے لیے ایک رس بھرا مالٹا
موجود ہو۔


...

“The oranges are still green,” sighs
Khalai. “I will see you tomorrow orange
tree,” says Khalai. “Perhaps then you
will have a ripe orange for me!”

Khalai passes wild flowers. "Please
flowers, keep bloomig so I can put you
in my hair."

...

କାଳୀ ପାରେ ଲୋହ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ
ଫୁଲର ପାରେ ଲୋହ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ
ଫୁଲର ପାରେ ଲୋହ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ




When Khalai returns home from school,
she visits the orange tree. "Are your
oranges ripe yet?" asks Khalai.

...

କାଳୀ ପାରେ ଲୋହ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ
ଫୁଲର ପାରେ ଲୋହ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ
ଫୁଲର ପାରେ ଲୋହ ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ





اسکول میں کھلائی نے صحن کے وسط میں درخت سے بات کی۔ ”درخت برائے مہربانی، بڑی شاخیں نکالو تاکہ ہم آپ کے سایہ کے نیچے پڑھ سکیں۔“

...

At school, Khalai talks to the tree in the middle of the compound. “Please tree, put out big branches so we can read under your shade.”

کھلائی اپنے اسکول کے ارد گرد جنگل سے بات کرتی ہے۔ ”براح کرم مضبوط ہو جاؤ اور خراب لوگوں کو آنے سے روک دو۔“

...

Khalai talks to the hedge around her school. “Please grow strong and stop bad people from coming in.”